

# COVID-19 عالمگیر وباء کے دوران تارک وطن کمیونٹیز کے لیے نیو

## یارک سٹی وسائل

سٹی آف نیو یارک کورونا وائرس (COVID-19) عالمگیر وباء سے نمایاں طور پر متاثرہ نیویارک کے باشندوں کی مدد کرنے کے لیے عہد بستہ ہے۔ خواہ آپ کی امیگریشن کی صورتحال جو بھی ہو اور آپ کی ادائیگی کی حیثیت سے قطع نظر نیو یارک کے تمام باشندوں کے لیے سٹی کی بہت سی خدمات دستیاب ہیں، تاہم اہلیت کے دوسرے تقاضوں کا اطلاق ہو سکتا ہے۔

دستیاب خدمات اور وسائل کے بارے میں معلومات **کثرت سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔** اپ ڈیٹس کے لیے، [nyc.gov/immigrants/coronavirus](https://nyc.gov/immigrants/coronavirus) اور [nyc.gov/coronavirus](https://nyc.gov/coronavirus) ملاحظہ فرمائیں اور ٹوئٹر پر [@NYCImmigrants](https://twitter.com/NYCImmigrants) کو فالو کریں۔

## COVID-19 رہنمائی اور علاج



- ممکنہ حد تک گھر پر ہی رہنے سے نیویارک سٹی میں (COVID-19) کے پھیلنے کا عمل دھیمبا ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں میں علامات ظاہر نہیں ہوتیں وہ بھی وائرس پھیلا سکتے ہیں۔
- نیویارک کے باشندوں کو عوام الناس میں چہرے کا غلاف پہننا چاہیے، خصوصی طور پر جب وہ ایک دوسرے سے کم از کم چھ فٹ کی دوری پر رہنے سے قاصر ہوں۔ چہرے کا غلاف اچھی طرح سے محفوظ کاغذ یا کپڑا ہوتا ہے جو آپ کی ناک اور منہ کو ڈھکتا ہے اور جب بھی آپ گھر سے باہر جائیں اسے ضرور پہننا چاہیے۔ کس قسم کا چہرے کا غلاف استعمال کیا جانا چاہیے اس بارے میں مزید معلومات کے لیے، [NYC.gov/Coronavirus](https://nyc.gov/Coronavirus) پر جائیں۔
- نیویارک سٹی کے تمام اہم ملازمین کو فرائض انجام دیتے ہوئے عوام الناس سے رابطہ ہونے پر چہرے کا غلاف پہننا چاہیے۔ سٹی کے اہم کارکنان میں شہر انتظامیہ چہرے کے غلاف/ماسک تقسیم کر رہا ہے۔
- کریانہ اسٹورز کو ملازمین اور کسٹمرز کی حفاظت کی خاطر کسٹمرز کے لیے چہرے کا غلاف پہننا لازمی کر دینا چاہیے۔ کاروباری مالکان کو اس رہنمائی کو نافذ کرنے میں مدد کے لیے سائن بورڈ آویزاں کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
- اگر آپ بیمار ہیں، تو گھر پر ہی رہیں۔ اگر آپ کو کھانسی، سانس لینے میں دقت، بخار، گلے میں خراش ہے اور 3-4 دن کے بعد بہتر محسوس نہیں کرتے ہیں، تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔
- ڈاکٹر سے شخصی طور پر ملاقات کرنے جانے کے بجائے ٹیلیفون، ٹیکسٹ، ٹیلی میڈیسن (ویڈیو کانفرنسنگ)، یا پیشنٹ پورٹل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔ آپ اور آپ کے ڈاکٹر یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا آپ کو گھر کے باہر طبی نگہداشت طلب کرنے کی ضرورت ہے۔
- اگر آپ کو ڈاکٹر تلاش کرنے یا طبی نگہداشت حاصل کرنے میں مدد کی ضرورت ہے، تو **311** پر کال کریں۔ سٹی آپ کی امیگریشن کی صورتحال سے قطع نظر آپ کو طبی نگہداشت فراہم کرے گا خواہ آپ اس کی ادائیگی کر سکتے ہوں یا نہیں۔
- سٹی آف نیویارک مریضوں کی براہ راست COVID-19 کی جانچیں انجام نہیں دے رہا ہے۔ اگر آپ کو ایسی کال موصول ہوتی ہے، تو یہ جعلسازی ہے۔ اپنے صحت فراہم کنندہ سے صرف اپنی صحت کی معلومات پر بات کریں، جن میں کوئی ضروری جانچیں شامل ہیں۔
- COVID-19 عالمگیر وباء کے سلسلے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اس بارے میں شہر کے رہنما خطوط کو کثرت سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ تازہ ترین معلومات کے ساتھ تاحال تازہ رہنے کے لیے، [NYC.gov/Coronavirus](https://nyc.gov/Coronavirus) ملاحظہ کریں۔ معلومات 20 سے زائد زبانوں میں دستیاب ہے۔
- COVID-19 کے بارے میں انگریزی میں واقعی فوری ٹیکسٹ اپ ڈیٹس کے لیے، ٹیکسٹ COVID کو **692-692** پر بھیجیں۔
- ہسپانوی میں واقعی فوری اپ ڈیٹس کے لیے، ٹیکسٹ COVIDESP کو **692-692** پر بھیجیں۔
- ٹویٹر پر انگریزی، ہسپانوی اور چینی میں بھی واقعی فوری اپ ڈیٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
- [@NotifyNYC](https://twitter.com/NotifyNYC) اور [@NNYCSpanish](https://twitter.com/NNYCSpanish) کو فالو کریں۔
- نیو یارک کے ایسے باشندے جن کی COVID-19 کے لیے علامات یا جانچ مثبت آئی ہے، کسی ایسے فرد کے رابطے میں آئے ہیں جنہیں COVID-19 ہوسکتا ہے، یا فی الحال قرنطینہ میں ہیں وہ سٹی کو اپنی صورتحال سے آگاہ کرسکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے [NYC COVID-19](https://nyc.gov/COVID-19) انکیچمینٹ پورٹل ملاحظہ کریں۔

## COVID-19 اور امیگریشن کی تشویش



- COVID-19 کے لیے نگہداشت، علاج یا چانچوں کے لیے آپ پر "پبلک چارج" عائد نہیں ہوگا یا گرین کارڈ کی درخواست دینے کی آپ کی اہلیت متاثر نہیں ہوگی۔ رفاہی یا رعایت شدہ طبی نگہداشت سے آپ کی گرین کارڈ کی درخواست دینے کی اہلیت متاثر نہیں ہوگی۔ شہریت کی درخواست دیتے وقت گرین کارڈ برداروں کے لیے کوئی "پبلک چارج" کی جانچ نہیں ہوتی ہے۔ بلا خوف نگہداشت تلاش کریں۔
- متعدد تارکین وطن "پبلک چارج" ٹیسٹ سے متاثر نہیں ہوتے ہیں۔
- اور تمام عوامی، خدمات، پروگرامز یا فوائد کو "پبلک چارج" کی جانچ کے تحت "عوامی فوائد" خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، درج ذیل خدمات اور پروگراموں پر "پبلک بینفٹس" کے بطور غور نہیں کیا جاتا ہے حتیٰ کہ تارکین وطن کے لیے بھی جو "پبلک چارج" کی جانچ کے مستوجب ہیں:
  - نگہداشت صحت کی خدمات اور غیر ہنگامی میڈیکلڈ (Medicaid) کے علاوہ زیادہ تر صحت کا بیمہ
  - جبکہ Medicaid شامل ہے، Medicaid کے درج ذیل فوائد مستثنیٰ ہیں:
    - ہنگامی Medicaid
    - Medicaid کے ذریعہ فنڈ یافتہ لیکن معذور افراد کی تعلیم سے متعلق قانون (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) کے تحت فراہم کردہ خدمات
    - Medicaid کے ذریعہ فنڈ یافتہ سکول پر مبنی خدمات یا فوائد
    - 21 سال سے کم عمر کے بچوں کے ذریعہ حاصل شدہ Medicaid فوائد
    - حمل + 60 دن کے دوران خاتون کے ذریعہ حاصل شدہ Medicaid فوائد
  - متعدد قسموں کے غذائی تعاون، جیسے کہ خواتین، نونہال اور بچوں (WIC) کے لیے خصوصی تکملاتی تغذیاتی پروگرام، غذائی پینٹریز، سکول میں گریب اینڈ گو میلز، اور مزید (سوائے SNAP کے؛ ذیل کا "غذائی" سیکشن ملاحظہ کریں)
  - بے روزگاری فوائد
- امیگریشن کی حیثیت سے قطع نظر نگہداشت صحت کے تمام مریضوں کے لیے رازداری سے متعلق مضبوط تحفظ موجود ہے۔ وفاقی قانون کے تحت، ہسپتال اور کلینکس مریض کی اجازت کے بغیر مریض کی معلومات کا اشتراک نہیں کرتے ہیں، جب تک کہ ایسا کرنا قانونی طور پر لازمی نہ ہو۔
- اگر آپ کے پاس امیگریشن اور پبلک بینفٹس کے بارے میں سوالات ہیں، تو بروقت اور معتبر معلومات اور قانونی مدد کے رابطوں تک رسائی کے لیے مفت، رازدارانہ ActionNYC ہاٹ لائن پر **1-800-354-0365**، پیر تا جمعہ، صبح 9 بجے - شام 6 بجے کال کریں، یا **311** پر کال کریں اور "پبلک چارج" کہیں۔

## نگہداشت صحت اور بہبود



- NYC Health + Hospitals آپ کی امیگریشن کی صورتحال سے قطع نظر، نیویارک کے تمام باشندوں کو نگہداشت فراہم کرتا ہے۔ NYC Health + Hospitals آپ کی مدد کریں گے خواہ آپ کے پاس بیمہ نہ بھی ہو اور آپ نگہداشت صحت کے لیے ادائیگی نہیں کرسکتے ہوں۔ یہ سبھی قسموں کی نگہداشت صحت کی خدمات کے لیے درست ہے، جس میں ہنگامی نگہداشت، ڈاکٹر کی ملاقات، دوائیاں، طویل مدتی نگہداشت، اور ہسپتال میں قیام شامل ہے۔ [NYCHealthandHospitals.org/immigrant](http://NYCHealthandHospitals.org/immigrant) ملاحظہ کریں یا (844-692-4692) یا (844-NYC-4NYC) یا 311 پر کال کریں۔
- NYC کیئر ایک پروگرام ہے جو NYC Health + Hospitals کی جانب سے ایسے تمام نیو یارک کے باشندوں کو کم لاگت اور مفت خدمات فراہم کرنے کی ضمانت دیتا ہے جو صحت کے بیمہ کے اہل نہیں ہیں یا اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ سماجی طور پر فاصلہ رکھنے کی تعمیل کرنے کے لیے (ایسے لوگوں سے چھ فٹ کی دوری بنائے رکھنا جو آپ کے گھر میں نہ رہتے ہوں)، NYC کیئر کے عملہ کے اراکین آپ کے رابطہ کی معلومات لیں گے اور شخصی میٹنگ کی اجازت ملنے پر اندراج کے لیے واپس آپ کو کال کریں گے۔ [NYCCare.nyc](http://NYCCare.nyc) پر جائیں یا (1-646-NYC-Care) یا (1-646-692-2273) پر کال کریں۔
- نیو یارک سٹی کے پاس ایسے متعدد مقامی کمیونٹی صحت مراکز ہیں جو آپ کی آمدنی کے لحاظ سے تخفیفی فیس کی بنیاد پر، طبی نگہداشت فراہم کرتے ہیں۔ امیگریشن کی صورتحال سے قطع نظر، یہ نگہداشت سب کے لیے دستیاب ہے۔ اپنے قریب کا مقام تلاش کرنے کے لیے [FindaHealthCenter.HRSA.gov](http://FindaHealthCenter.HRSA.gov) ملاحظہ کریں یا NYC کم-تا مفت نگہداشت کے اختیار کی فہرست دیکھیں۔

- اگر آپ مضطرب، تناؤ زدہ یا مغلوب محسوس کر رہے ہیں، تو NYC Well پر تربیت یافتہ کاؤنسلروں سے رابطہ کریں، جو کہ 200+ زبانوں میں دستیاب سٹی کی مفت، رازدارانہ ہیلپ لائن ہے۔ (888-692-9355) 888-NYC-WELL پر کال کریں، ٹیکسٹ WELL کو 65173 پر بھیجیں یا [NYC.gov/NYCWell](http://NYC.gov/NYCWell) پر آن لائن چیٹ کریں۔
- خصوصی طور پر تربیت یافتہ رضاکار پیشہ ور افراد سے بات کرنے کے لیے نیویارک ریاست کے COVID-19 جذباتی تعاون کی ہیلپ لائن 844-863-9314 پر کال کریں۔ یہ لوگ صبح 8 سے رات 10 بجے تک، ہفتہ میں سات دن سنے، مدد کرنے اور ریفرلز کی پیشکش کے لیے دستیاب ہیں۔

## صحت کا بیمہ



- متعدد کم-تا مفت صحت بیمہ کے منصوبے تارکین وطن کے لیے دستیاب ہیں، جن میں بغیر دستاویز والے بچے اور حاملہ خواتین شامل ہیں۔ Medicaid، چائلڈ ہیلتھ پلس، اور لازمی پلان آپ کے لیے پورے سال دستیاب ہے۔ [New York State of Health](http://New York State of Health) (این وائی سی اسٹیٹ آف ہیلتھ) ملاحظہ کریں یا 311 پر کال کریں۔
- COVID-19 عالمگیر وباء کی وجہ سے، اگلے نوٹس تک شخصی طور پر صحت کے بیمہ میں اندراج کی خدمات معطل رہیں گی۔ آپ معلومات کے لیے کال کر سکتے ہیں یا ٹیلیفون اپائنمنٹ شیڈیول کر سکتے ہیں۔ امیگریشن کی حیثیت سے قطع نظر اور متعدد زبانوں میں مدد دستیاب ہے۔ [NYC CoveredNYC](http://NYC CoveredNYC) کے آفس آف ہیلتھ انشورنس سروسز پر جائیں، یا 311 پر کال کریں۔ آپ CoveredNYC لکھ کر 877-877 پر بھیج سکتے ہیں۔ ہسپانوی زبان کے لیے ٹیکسٹ SeguroNYC کو 877-877 پر بھیجیں۔
- کمیونٹی ہیلتھ ایڈووکیٹس (Community Health Advocates, CHA) پوری نیویارک ریاست میں موجود کمیونٹیز کو انفرادی تعاون اور تعلیم فراہم کر کے نیویارک کے باشندوں کی نگہداشت صحت کے پیچیدہ نظام کا راستہ تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے۔ CHA صحت کے بیمہ کو استعمال کرنے کے طریقہ کے سلسلے میں تعاون فراہم کرتا ہے، طبی بل کاری اور قرض سے متعلق مسائل کو حل کرتا ہے، اور کوریج سے انکار اور اہلیت کے تعین کو حل کرتا ہے۔ یہ مدد 170 سے زائد زبانوں میں دستیاب ہے۔ ہاٹ لائن (888) 614-5400 پر، پیر تا جمعہ صبح 9 تا شام 4 بجے کال کریں۔

## غذا



- تکملاتی غذائی اعانت کا پروگرام (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)، فوڈ اسٹامپس، غذا خریدنے کے لیے محدود آمدنی والے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ امیگریشن سے متعلق کچھ پابندیوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ آن لائن درخواست اور تجدید ACCESS HRA، شہر کے آن لائن پورٹل کے ذریعہ انجام دی جا سکتی ہے، جو آپ کو درخواست دینے اور آپ کے عوامی فوائد کے معاملے کی درخواست دینے اور اس کا نظم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے HRA کی انفولائن کو 718-557-1399 پر کال کریں۔
- NYC میں SNAP موصول کنندگان کریانہ کے سامانوں کی خریداری [Amazon](http://Amazon)، [Shoprite](http://Shoprite)، یا [Walmart](http://Walmart) پر کر سکتے ہیں۔ اس بات کی تصدیق کرنا یقینی بنائیں کہ آن لائن اسٹور آپ کے گھر کے پتے پر ڈیلیور کرتا ہے۔
- اگر آپ کے پاس امیگریشن اور پبلک بینفٹس جیسے کہ SNAP کے بارے میں سوالات ہیں، تو معلومات اور قانونی مدد کے رابطوں تک رسائی کے لیے مفت، رازدارانہ ActionNYC ہاٹ لائن پر 1-800-354-0365، پیر تا جمعہ، صبح 9 بجے - شام 6 بجے کال کریں، یا 311 پر کال کریں اور "پبلک چارج" کہیں۔
- ذیل میں مذکور خدمات امیگریشن کی صورتحال سے قطع نظر تمام نیویارک کے باشندوں کے لیے مفت میں فراہم کی جاتی ہیں۔ غیر دستاویز بند تارکین وطن کو بھی یہ خدمات حاصل ہوں گی، اور ایسا کرنے سے آپ پر "پبلک چارج" عائد نہیں ہوگا یا گرین کارڈ کی درخواست دینے کی آپ کی اہلیت متاثر نہیں ہو گی۔
- نیویارک سٹی کے فوڈ پیٹریز کریانہ کے سامان فراہم کرتے ہیں، اور کمیونٹی کچنز گرم کھانے فراہم کرتے ہیں۔ آمدنی کی کوئی حد نہیں ہے۔ [FoodHelpNYC](http://FoodHelpNYC) کا استعمال کرتے ہوئے اپنے قریب کا مقام تلاش کریں یا 311 پر کال کریں۔
- پورے شہر میں میل ہبز (meal hubs) پر نیویارک کے تمام باشندوں کے لیے دن میں تین کھانے دستیاب ہیں۔ میلز ہبز پیر تا جمعہ صبح 7:30 تا دوپہر 11:30 بجے تک بچوں اور خاندانوں کے لیے چلتے ہیں، اور دوپہر 11:30 تا 1:30 بجے تک بالغوں کے لیے چلتے ہیں۔ یہ کھانے لینے کے لیے کسی بھی رجسٹریشن، شناخت، یا دستاویز کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام بڑے اور بچے ایک وقت میں تین وقت کا کھانا حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین یا سرپرست اپنے بچوں کے لیے کھانے لے جا سکتے ہیں۔ طعام گاہ دستیاب نہیں ہے، اس لیے کھانا میل ہبز سے باہر کھایا جانا چاہیے۔ تمام سائٹوں پر سبزی خوری، کوشر اور حلال اختیارات موجود ہیں۔ محکمہ تعلیم کی [مفت کھانے کے مقام تلاش کرنے والی ویب سائٹ](http://FoodHelpNYC) پر جائیں یا 311 پر کال کریں۔ آپ FOOD لکھ کر 877-877 پر ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہسپانوی زبان کے لیے ٹیکسٹ COMIDA کو 877-877 پر بھیجیں۔

- کوئی بھی بڑی عمر کے افراد، 60 سال اور زیادہ جو اختیارات کی تلاش میں ہیں کہ وہ کہاں سے اپنی خوراک حاصل کریں، بشمول ممکنہ گھر پر ڈیلیوری، انہیں [www.nyc.gov/getfood](http://www.nyc.gov/getfood) پر جانا چاہیے یا 311 پر رابطہ کریں اور کہیں "Get Food" (گیٹ فوڈ)۔
- اس سروس کے بارے میں ایک شکایت کو منسوخ کرنے، تبدیل کرنے یا جمع کرانے کے لیے آپ 311 پر کال کر سکتے ہیں اور کہیں "Get Food" (گیٹ فوڈ) یا ذیل پر آن لائن اپنی رائے جمع کرائیں: [on.nyc.gov/seniorfoodhelp](http://on.nyc.gov/seniorfoodhelp)
- اگر آپ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے ہیں، کوئی ایسا فرد موجود نہیں ہے جو آپ کے لیے کھانا لائے، اور آپ نجی ڈیلیوری کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے گھر پر کھانے کی ڈیلیوری کے اہل ہو سکتے ہیں۔ [NYC COVID-19](http://nyc.gov/covid19) غذائی تعاون کے وسائل سے متعلق ویب سائٹ پر جائیں یا 311 پر کال کریں اور "Get Food" (گیٹ فوڈ) کہیں۔
- خواتین، شیر خوار، اور بچوں (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children, WIC) کے لیے خصوصی تکملاتی تغذیاتی پروگرام کم آمدنی والی خاتون اور بچوں کو صحت بخش غذا اور دیگر خدمات فراہم کرتا ہے۔ [ACCESS NYC](http://ACCESSNYC.org) پر جائیں (ہسپانوی کے لیے [ACCESS NYC ESPAÑOL](http://ACCESSNYCESPAÑOL.org) پر جائیں) یا HRA کی انفولائن **718-557-1399** پر کال کریں۔

## رہائش اور افادیات



- امیگریشن کی صورتحال سے قطع نظر، فی الوقت تمام لوگوں کے لیے نیویارک میں بے دخلی کی تمام قانونی کارروائی اور زیرالتوا بے دخلی کے آرڈرز معطل کر دیئے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے دوران آپ کا مکان مالک کرایہ کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں آپ کو گھر سے نہیں نکال سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، [میٹرز آفس کے پروٹیکٹ ٹینٹ کی ویب سائٹ](http://www.nyc.gov/housing) ملاحظہ کریں یا [COVID-19](http://www.nyc.gov/covid19) اور ہاؤسنگ سے متعلق حقوق کے لیے NYS اٹارنی جنرل کا صفحہ ملاحظہ کریں۔
- ایسے کرائے دار جن کے پاس سوالات ہوں یا اپنی کرایہ داری کے بارے میں قانونی مشورہ درکار ہو، اگر انہیں ان کے مکان مالکان نے ہراساں کیا ہو، یا انہیں گھر خالی کرنے کی دھمکی دی گئی ہو، وہ 311 پر کال کر کے سٹی کے مقامی کرایہ داری سے متعلق ہاٹ لائن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہاٹ لائن-زپ کوڈ، آمدنی یا امیگریشن کی صورتحال سے قطع نظر—COVID-19 بحران کے دوران کرایہ داری کے مسائل کو حل کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ سٹی کے فوائد تک کس طرح رسائی حاصل کی جائے یا اعانت، مفت قانونی مشورہ، اور نیویارک کے سبھی باشندوں کی مدد کی خاطر دستیاب دوسرے وسائل کے لیے کیسے درخواست دی جائے۔
- اگر کورونا وائرس کی وجہ سے آپ کے کام کے شیڈیول میں تخفیف ہوئی ہے اور آپ اپنا کرایہ ادا کرنے سے قاصر ہیں، تو آپ ہنگامی نقد اعانت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ امیگریشن سے متعلق کچھ پابندیوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ [ACCESS NYC](http://ACCESSNYC.org) پر جائیں (ہسپانوی کے لیے [Access NYC Español](http://AccessNYCESpañol.org) پر جائیں) یا HRA کی انفولائن **718-557-1399** پر کال کریں۔
- Homebase program (ہوم بیس پروگرام) NYC کے باشندوں کو اپنا گھر کھونے اور پناہ گاہ کے نظام میں داخل ہونے کے فوری خطرہ کے سلسلے میں مدد کر سکتا ہے۔ ہوم بیس پر HRA کا ویب صفحہ ملاحظہ کریں یا 311 پر کال کریں۔
- اگر آپ NYC ہاؤسنگ پریزرویشن اینڈ ڈیولپمنٹ (Housing Preservation and Development, HPD) سیکشن 8 واؤچر استعمال کرتے ہیں اور آمدنی کے خسارے کی وجہ سے کرایہ کی ادائیگی میں پریشانی ہو رہی ہے، تو اعانت حاصل کرنے کے لیے [DTRAI@hpd.nyc.gov](mailto:DTRAI@hpd.nyc.gov) کو ای میل کریں۔
- آمدنی کے خسارے کے تجربہ والے NYCHA کے باشندے [NYCHA](http://www.nycha.org) کے کرایہ سے متعلق تنگدستی کے پروگرام کے اہل ہو سکتے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے، NYCHA کسٹمر کنٹیکٹ سینٹر کو **718-707-7771** پر کال کریں۔
- سٹی NYCHA کے باشندوں کو متعدد وسائل فراہم کر رہا ہے، جن میں NYCHA کے تمام باشندوں کے لیے COVID-19 کی جانچ کے لیے ذاتی تحفظاتی سازوسامان ساتھ ہی معمر افراد کے لیے کھانے اور تندرستی کی جانچیں شامل ہیں۔ مزید معلومات کے لیے، [NYCHA کی ویب سائٹ](http://www.nycha.org) ملاحظہ کریں۔
- نیویارک سٹی درج ذیل انفرادی گروپ کو عارضی طور پر ہوٹل کی رہائش فراہم کر رہا ہے: نیویارک کے رہائشی لوگ جو بے گھری کا شکار ہیں؛ نگہداشت صحت کے کارکنان، علامات سے قطع نظر، NYC Health + Hospitals کے مریض جنہیں چھٹی دی جا رہی ہے اور انہیں خود سے تنہائی اختیار کرنے کی ضرورت ہے؛ اور ایسے افراد جن کی علامات کا نتیجہ مثبت آیا ہے یا ان میں COVID-19 کی علامات پائی گئی ہیں، اور انہیں خود سے تنہائی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید معلومات کے لیے، [nyc.gov/covid19hotel](http://nyc.gov/covid19hotel) ملاحظہ کریں۔
- ConEdison افادیات کے بلوں کی ادائیگی کرنے میں ناکامی کی وجہ سے بجلی کی خدمات کو بند نہ کرنے اور تاخیر سے جرمانے کی فیس کو معاف کرنے کے لیے متفق ہے۔ نیشنل گرڈ نے بھی کہا ہے کہ وہ کم سے کم اپریل کے آخر تک بلوں کی ادائیگی کرنے میں ناکامی کے سبب گیس کی خدمات منقطع نہیں کرے گا۔ مزید معلومات کے لیے [ConEdison کی ویب سائٹ](http://www.conedison.com) اور [National Grid کی ویب سائٹ](http://www.nationalgrid.com) ملاحظہ کریں۔
- AT&T، Comcast، اور Verizon نے 60 دنوں کے لیے انٹرنیٹ سروسز ختم نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے اگر آپ COVID-19 کی وجہ سے ہونے والی مداخلت کے سبب بلوں کی ادائیگی نہیں کر پاتے ہیں۔

- Comcast نئے کم آمدنی والے کسٹمرز کے واسطے دو مہینے کے لیے مفت انٹرنیٹ کی پیشکش کر رہا ہے جس کی رفتار 25 Mbps ہے۔ مزید معلومات کے لیے [Comcast Internal Essentials](#) ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔
- [Comcast Xfinity](#) اور [Metro PCS, T-Mobile, Sprint, AT&T](#) نے کم سے کم 60 دنوں کے لیے سیل فون کے سبسکرائبر کے لیے اپنے ڈیٹا کیپ کو ہٹا لیا ہے۔ [Verizon](#) نے صارف اور چھوٹے کاروبار کے اشتراک کردہ ڈیٹا پلانز، ہاٹ اسپاٹس اور جیٹ پیکس میں 4G LTE ڈیٹا کا اضافی 15GB شامل کیا ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے سیل فون فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔
- آئندہ نوٹس تک، "xfinitywifi" SSID پر تمام Xfinity WiFi پبلک ہاٹ اسپاٹس اب سبھی کے لیے کھلے ہیں۔ پبلک ہاٹ اسپاٹس کمزور علاقہ کے چھوٹے/درمیانی کاروباروں میں تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ WiFi پبلک ہاٹ اسپاٹس تلاش کرنے اور مزید جاننے کے لیے [Xfinity WiFi](#) ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔

## تعلیم اور نگہداشت اطفال



- ریمورٹ لرننگ 2019-2020 کے بقیہ اسکولی سال کے لیے بدستور جاری رہے گی اگر سکول اس کے بعد بھی بند رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ طلباء انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے اپنی کلاسیں لیں گے۔ محکمہ تعلیم (Department of Education, DOE) ضرورت مند بچوں کے لیے انٹرنیٹ-فعال شدہ آئی پیڈز مستعار دے رہا ہے۔ سیلولر ڈیٹا پلان شامل ہے۔ [Schools.NYC.gov/Coronavirus](#) پر مزید تلاش کریں یا 311 پر کال کریں۔
- K-12 کے طلباء اور یونیورسٹی کے طلباء کے لیے مفت انٹرنیٹ کے متعدد اختیارات موجود ہیں:
  - [چارٹر اسپیکٹم](#) اپنے نئے کسٹمر کے لیے پہلے دو مہینے مفت میں انٹرنیٹ فراہم کر رہا ہے جس کی رفتار 100 Mbps تک ہوگی۔ انسٹالیشن کی فیس میں چھوٹ دی جا سکتی ہے۔ 1-844-488-8395 پر کال کریں۔
  - [Suddenlink](#) اور [Optimum](#) دونوں ہی Altice USA کی ملکیت ہیں، جو نئے کسٹمر کے لیے 60 دنوں کے لیے مفت انٹرنیٹ کی پیشکش کر رہے ہیں جس کی رفتار 30 Mbps تک ہوگی۔ Optimum کے لیے 1-866-200-9522 پر کال کریں، اور Suddenlink internet service کے لیے 1-888-633-0030 پر کال کریں۔
  - Cox اپنے انٹرنیٹ پروگرام، [Connect2Compete](#) کے لیے کم آمدنی والے نئے کسٹمرز کے ساتھ بچوں (K-12) یا اس سے کم عمر) کے لیے 12 مئی 2020 تک مفت انٹرنیٹ کی پیشکش کر رہا ہے۔
- DOE کے پاس پری-K سے 12 تک کے گریڈز کے طلباء کے لیے انگریزی میں [لرن-این-یوم](#) وسائل موجود ہیں۔
- NYC ایڈمنسٹریشن فار چلڈرنز سروسز (Administration for Children's Services, ACS) کے پاس والدین اور بچوں کے لیے ایک [ورچول COVID-19 کے وسائل کا رہنما کتابچہ](#) ہے جس میں پرورش سے متعلق نکات، قرنطینہ کے دوران تجویز کردہ سرگرمیاں، اور بنیادی ضروریات کے لیے وسائل موجود ہیں۔
- ACS، فیملی انرجمنٹ سینٹرز (FEC)، جو کہ کمیونٹی کے لیے کئی طرح کی پیشکشیں فراہم کر رہے ہیں، فراہم کرنے کے لیے آس پاس کے تین علاقوں میں کمیونٹی کی بنیاد پر تنظیموں کے ساتھ اشتراک عمل کر رہا ہے۔ FEC اب ریموٹ حوالے اور تعاون، ساتھ ہی محدود شخصی ہنگامی وسائل فراہم کر رہے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ [ACS ویب سائٹ](#) کا دورہ کر سکتے ہیں۔
- نیویارک پبلک لائبریری (New York Public Library, NYPL) [طلباء کے لیے مفت آن لائن تدریس](#) کی پیشکش کرتی ہے۔ طلباء روزانہ 2 بجے دوپہر سے 11 بجے رات کے دوران ہوم ورک میں مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ انگلش اور ہسپانوی زبان میں ٹیوٹرز ابتدائی ایلیمینٹری سے لے کر ہائی اسکول کے گریڈز تک، بنیادی مضمون کے امور میں دستیاب ہیں۔ ویڈیو مواد اور دوسرے وسائل بھی دن میں 24 گھنٹے دستیاب ہیں۔ اس سروس تک رسائی کے لیے خاندانوں کو نیویارک لائبریری کارڈ کی ضرورت ہوگی، اور [نیو یارک پبلک لائبریری کی ویب سائٹ](#) پر کارڈ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔
- We Speak NYC مفت آن لائن تعلیمی انگریزی زبان سے متعلق وسائل فراہم کرتا ہے اور مفت آن لائن کلاسز کی پیشکش کرتا ہے۔ امیگریشن کی حیثیت سے قطع نظر، نئے لوگوں سے ملنے، نیو یارک سٹی کے تمام باشندوں کے بارے میں نیو یارک سٹی کی خدمات کی دستیابی کے بارے میں جاننے، انگریزی بولنے کی مشق کرنے کے لیے [آج ہی کلاس کے لیے سائن اپ کریں](#)۔ اگر آپ کلاس میں تشریف لانا چاہتے ہیں، تو براہ کرم [یہاں پر کلاس کا شیڈول ملاحظہ کریں](#)۔ کوئی بھی فرد اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت کے بغیر [We Speak NYC کی ویب سائٹ](#) پر مفت وسائل تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ معلمین کے لیے بھی مواد موجود ہیں جن میں سبق کے منصوبے، اور دستی کتابچہ شامل ہیں۔
- سٹی علاقائی تقویت سیٹرز (Regional Enrichment Centers, RECs) میں پہلے ردعمل دینے والوں، نگہداشت صحت کے کارکنان، ٹرانزٹ کارکنان، اور سٹی کے دیگر عملے کے ساتھ ہی ضروری کارکنوں کے لیے مفت چائلڈ کیئر مہیا کرتا ہے۔ پری کنڈرگارٹن سے گریڈ 12 تک کے بچوں کے لیے REC صبح 7:30 بجے تا شام 6:30 بجے، پیر تا جمعہ کھلا ہے۔ کھانے فراہم کیے جائیں گے۔ خدمات اور مفت میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اہل کارکنان کی فہرست کے بارے میں مزید جاننے کے لیے DOE کے [علاقائی تقویت سیٹرز کی ویب سائٹ](#) پر جائیں یا 311 پر کال کریں۔



- آپ چاہے ایک کاروبار کے مالک ہوں یا ایک ملازمت کے متلاشی فرد، NYC Department of Small Business Services (NYC ڈیپارٹمنٹ آف سمال بزنس سروسز) نیویارک کے لوگوں کے لیے معاونت کی پیشکش کرتا ہے۔ COVID-19 کے بارے میں تازہ ترین وسائل اور معلومات کے لیے [nyc.gov/sbs](https://nyc.gov/sbs) ملاحظہ کریں۔
- کورونا وائرس امداد، راحت، اور معاشی تحفظ سے متعلق ایکٹ (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, (CARES Act)) کے حصہ کے طور پر، حکومت ایسے متعدد لوگوں کو معاشی اثر سے متعلق ادائیگیاں بھیج رہی ہیں جن کی آمدنی ایک مخصوص رقم سے کم ہے۔
  - آپ معاشی اثر کی ادائیگی کے لیے اہل ہوسکتے ہیں اگر آپ
    - امریکی شہری یا امریکہ میں مقیم پردیسی ہیں؛
    - کسی دوسرے فرد پر منحصر فرد کے بطور دعویدار نہیں ہو سکتے ہیں؛
    - سوشل سکیورٹی نمبر (SSN) کے حامل ہیں جو ملازمت کے لیے درست ہے (کارآمد SSN)؛ اور
    - انفرادی طور پر \$99,000 کی اور مشترکہ طور پر \$198,000 کی مجموعی آمدنی ہے۔
  - خاندان کے معاملے میں، والدین کے پاس درست سوشل سکیورٹی نمبرز ہونے چاہئیں اور منحصرین کے بطور دعویٰ کرنے والے بچوں کے پاس درست سوشل سکیورٹی نمبرز ہونے چاہئیں۔ (استثناء: اگر شریک حیات میں سے کوئی بھی قابل ٹیکس سال کے دوران کسی بھی وقت امریکی مسلح افواج کے ممبر ہیں، تو صرف ایک شریک حیات کو درست SSN نمبر رکھنے کی ضرورت ہے۔)
  - مزید معلومات کے لیے، [ACCESS NYC](https://www.accessnyc.org/) ملاحظہ کریں۔
- ایک کارکن کے بطور اپنے حقوق جانیں اور آپ کے پاس آپ کی امیگریشن کی صورتحال سے قطع نظر یہ حقوق ہیں، جس میں نیو یارک سٹی قانون کے تحت باعوضہ محفوظ اور بیماری کی چھٹی شامل ہے۔ [ACCESS NYC کارکن کے بل آف رائٹس](https://www.accessnyc.org/) کا اطلاق سبھی پر ہوتا ہے، جس میں غیردستاویز بند تارکین وطن شامل ہیں۔
- آپ COVID-19 کے لیے نیویارک ریاست کے قانون کے تحت ہنگامی یا معاوضہ بیماری کی چھٹی کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ غیردستاویزی تارکین وطن بھی اہل ہو سکتے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے، [نیو یارک ریاست کے گورنر آفس کی ویب سائٹ](https://www.accessnyc.org/) ملاحظہ کریں یا ریاست کی COVID-19 ہاٹ لائن 1-888-364-3065 پر کال کریں۔
- کام کی اجازت والے نیویارک کے تارکین وطن باشندے بے روزگاری بیمہ فوائد کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ نیو یارک ریاست 7 دنوں کے وقفہ انتظار کو مستثنیٰ کر رہا ہے۔ [نیویارک اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف لیبر کی ویب سائٹ](https://www.accessnyc.org/) ملاحظہ کریں یا 1-888-209-8124 پر کال کریں۔ اہلیت اور درخواست کے عمل کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ کرم [NYC کے بے روزگاری کے سنفٹس عمومی سوالات](https://www.accessnyc.org/) ملاحظہ کریں۔
- نیویارک کے تارکین وطن باشندے اور/یا ان کے بچے نیویارک میں نقد اعانت کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ [ACCESS NYC](https://www.accessnyc.org/) پر جائیں (ہسپانوی کے لیے [Access NYC Español](https://www.accessnyc.org/espanol/) پر جائیں) یا HRA کی انفولائن 718-557-1399 پر کال کریں۔
- اگر آپ کو گھر مارگیج کی ادائیگی میں مالی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، تو نیویارک اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف فائنانشیل سروسز کے [مارگیج سے استثناء کے رہنما](https://www.accessnyc.org/) کے مطابق آپ کا بینک آپ کے مارگیج کی ادائیگی کو 90 دنوں کے لیے معاف کر دے گا۔ مزید معلومات کے لیے اپنے مارگیج دینے والے بینک کو کال کریں۔
- فیڈرل اسٹوڈنٹ قرض کی ادائیگی، بغیر کسی سود یا جرمانے کے خودکار طور پر معطل ہو گئی ہے۔ کچھ طلباء قرضے، جیسا کہ پرانے فیڈرل فیملی ایجوکیشن قرضے، جو یو ایس ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کی ملکیت نہیں ہیں، سکول کی ملکیت والے پرکنس لونز، اور طلباء کے نجی قرضوں کو معطل نہیں کیا گیا ہے۔ NYC ڈیپارٹمنٹ آف کنزیومر اور ورکر پروٹیکشن کے [COVID-19 کے دوران طالب علم کے قرض پر مفید نکات](https://www.accessnyc.org/) پر مزید تلاش کریں، اور [studentaid.gov](https://www.studentaid.gov) ملاحظہ کریں۔
- اگر نیویارک ریاست کو طالب علم یا طبی قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے، تو آپ کو قرض کی وصولی سے عارضی راحت حاصل ہو سکتی ہے۔ [نیویارک ریاست کے اٹارنی جنرل کی ویب سائٹ](https://www.accessnyc.org/) پر مزید معلومات حاصل کریں۔
- نگہداشت صحت کے فراہم کنندگان، ٹرانزٹ کے ملازمین، اور فرسٹ رسپانڈرز اپنے آجرین کے ذریعہ سائن اپ کر کے 30 دنوں کے لیے مفت سٹی ہائیک کی رکنیت حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے [سٹی ہائیک رکنیت ورک فورس پروگرام کا ویب صفحہ](https://www.accessnyc.org/) ملاحظہ کریں۔

## براساں کیے جانے اور امتیازی سلوک کے خلاف عوامی تحفظ اور حفاظت



- نسل، قومی نژاد، یا دیگر حیثیت کے لحاظ سے کسی کے بھی خلاف نفرت اور امتیازی سلوک کو نیو یارک سٹی میں برداشت نہیں کیا جاتا ہے۔ [NYC کمیشن آن ہیومن رائٹس](#)، میٹرز آفس فار پریونشن آف ہیٹ کرائم، اور [COVID-19، NYPD](#) کے نتیجے میں پیدا ہوئے ڈر اور بدنامی کی وجہ سے رپورٹ کردہ نفرت اور تعصب کے معاملات کی نگرانی اور ردعمل ظاہر کر رہا ہے۔
  - **311** پر براسانی یا امتیازی سلوک کی اطلاع دینے کے لیے کال کریں۔
  - اگر آپ منافرت کے جرم کے شکار ہیں یا اپنے یقین کے مطابق منافرت کے جرم کو ہوتے دیکھا ہے تو **911** پر کال کریں۔ مدد طلب کرنے والے کسی بھی فرد سے [NYPD آفیسرز امیگریشن کی صورتحال کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔](#)
  - [COVID-19](#) سے متعلق نفرت اور تعصبانہ واقعات کی اطلاع دینے، اور متاثر اور ذہنی صحت کے تعاون تک رسائی کے طریقے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے [nyc.gov/StopCOVIDHate](https://nyc.gov/StopCOVIDHate) ملاحظہ کریں۔
- [NYC فیملی جسٹس سنٹرز](#) خانگی تشدد کے شکار افراد کو تعاون فراہم کرنے کے لیے فون پر دستیاب ہے، جن میں فوری حفاظتی منصوبہ بندی، پناہ گاہ سے متعلق تعاون، قانونی اعانت، ذہنی صحت اور کاؤنسلنگ کی خدمات، اور دیگر اہم وسائل شامل ہیں۔ آپ سے پیغام چھوڑنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، اور جتنی جلدی ممکن ہوگا کوئی آپ سے رابطہ کرے گا۔
  - پیر تا جمعہ، صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک، آپ اپنے نزدیکی سینٹر پر کال کر سکتے ہیں۔
    - [NYC فیملی جسٹس سینٹر، برونکس کے لیے، 718-508-1220](#) پر کال کریں
    - [NYC فیملی جسٹس سینٹر، بروکلین کے لیے، 718-250-5113](#) پر کال کریں
    - [NYC فیملی جسٹس سینٹر، مین ہٹن کے لیے، 212-602-2800](#) پر کال کریں
    - [NYC فیملی جسٹس سینٹر، کوننز کے لیے، 718-575-4545](#) پر کال کریں
    - [NYC فیملی جسٹس سینٹر، اسٹیٹن آئی لینڈ کے لیے، 718-697-4300](#) پر کال کریں
  - شام یا اواخر ہفتہ میں، [NYC کے 24-گھنٹے والی ڈومیسٹک وائلنس ہاٹ لائن \(800-621-HOPE \(4673\)\)](#) پر کال کریں۔

## امیگریشن کی کارروائیوں اور نفاذ کی حیثیت



- [ActionNYC](#) شہر کی مہم ہے جس کے تحت نیو یارک کے باشندوں کو مفت، محفوظ، اور رازدارانہ امیگریشن سے متعلق قانونی مدد فراہم کی جاتی ہے۔ پروگرام کو اس وقت سماجی طور پر فاصلہ رکھنے کی تعمیل کرنے کے لیے فون کے ذریعہ امیگریشن کی اسکریننگ کی اجازت دینے کے دوران ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے (ایسے لوگوں سے چھ فٹ کی دوری بنائے رکھنا جو آپ کے گھر میں نہ رہتے ہوں)۔ امیگریشن کی صورت حال کے بارے میں کسی بھی سوالات یا تشویشات کے لیے، [1-800-354-0365](tel:1-800-354-0365) پر پیر تا جمعہ صبح 9 بجے تا شام 6 بجے کال کریں یا **311** پر کال کریں اور "ActionNYC" کہیں۔
- [NYC آفس آف سول جسٹس نیویارک](#) کے ضرورتمند شہریوں کے لیے مفت قانونی خدمات فراہم کرتا ہے، جس میں کرایہ دار، تارکین وطن، کم اجرت والے کارکنان اور دیوانی قانونی چیلنج کا سامنا کر رہے دوسرے نیویارک کے باشندے شامل ہیں۔ مزید معلومات کے لیے [NYC آفس آف سول جسٹس کی ویب سائٹ](#) ملاحظہ کریں۔
- امیگریشن عدالت کی شنوائیاں ان لوگوں کے لیے **15 مئی 2020** تک کے لیے روک دی گئی ہیں جنہیں حراست میں نہیں لیا گیا ہے۔ حراست میں لیے گئے لوگوں کے لیے، سماعتیں ابھی جاری ہیں۔ [Justice.gov/EOIR](https://Justice.gov/EOIR) پر جا کر، **1-800-898-7180** پر ایگزیکٹو آفس برائے امیگریشن جائزہ (Executive Office for Immigration Review, EOIR) کو کال کر کے اور [EOIR کے فیس بک کے صفحہ](#) کی پڑتال کر کے اپ ڈیٹس کے بارے میں باخبر رہیں۔
- یو ایس سٹیٹن اینڈ امیگریشن سروس ([U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS](#)) نے مزید نوٹس تک تمام روبرو خدمات کو منسوخ کر دیا ہے بشمول انٹرویوز اور حقوق قومیت کی تقریبات۔ [USCIS.gov/Coronavirus](https://USCIS.gov/Coronavirus) ملاحظہ کریں (ہسپانوی کے لیے [Respuesta de USCIS al Coronavirus 2019 webpage](#)) ملاحظہ کریں یا USCIS کی ہاٹ لائن **1-800-375-5283** پر کال کریں۔
- امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ([Immigration and Customs Enforcement, ICE](#)) نے [COVID-19](#) عالمگیر وباء کے جواب میں اپنی پالیسی میں ترمیم کی ہے۔ مزید معلومات کے لیے، [ICE.gov/COVID19](https://ICE.gov/COVID19) ملاحظہ کریں

- ICE کی حراست میں خاندان اور دوستوں کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ اٹارنیز کے لیے، کچھ قانونی ملاقاتیں جاری ہیں۔ تاہم، ICE جہاں بھی ممکن ہو اٹارنیز کے لیے ویڈیو سے ملاقات کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور ان ملاقاتوں کے لیے اپنی ذاتی تحفظاتی سازوسامان فراہم کرنے کے لیے ملنے کی اجازت ہے اور فیسلیٹی میں ان کی جانچ کی جا سکتی ہے۔ اٹارنیز کو تفصیلات اور اپ ڈیٹس کے لیے انفرادی فیسلیٹی سے رابطہ کرنا چاہیے۔
- ICE نے ان لوگوں کے لیے ذاتی طور پر چیک-ان کو منسوخ کر دیا ہے جنہیں حراست میں نہیں لیا گیا ہے۔ ٹیلیفون سے چیک ان ابھی بھی ہو رہا ہے۔
- ICE کے ذریعہ حراست میں لیا جانا جاری ہے۔ ICE نے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں پر کچھ پابندیاں لگائیں گے جنہیں وہ حراست میں لیں گے اور انہیں غیر معمولی صورتحال کے علاوہ نگہداشت صحت کی سہولیات پر یا اس کے آس پاس گرفتار نہیں کیا جائے گا۔

## اضافی وسائل



- امیگریشن یا سٹی کے وسائل تک رسائی کا طریقہ جاننے کے بارے میں سوالات ہیں؟ MOIA ہاٹ لائن کو 212-788-7654 پر، پیر تا جمعہ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کال کریں، [AskMOIA@cityhall.nyc.gov](mailto:AskMOIA@cityhall.nyc.gov) کو ای میل بھیجیں، یا MOIA نیبرہوڈ آرگنائزر سے رابطہ کریں۔
- نیو یارک کے معذور افراد کھانے / سپلائی کی فراہمی، سوشل سیکیورٹی / Medicaid بینفٹس، ہوم ہیلتھ کیئر سروسز، اور مزید وسائل کی معلومات کے لیے [معذور لوگوں کے لیے میٹرز آفس کے COVID-19 سے متعلق ویب صفحہ](#) پر جا سکتے ہیں۔
- [مردم شماری کے فارمز آن لائن](#) یا فون **844-330-2020** پر مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ زبان سے متعلق تعاون کے لیے، [2020 کے مردم شماری کے لسانے](#) [تعاون کے ویب صفحہ](#) پر جائیں۔ یہ مردم شماری محفوظ ہے، جوابات پوری طرح رازدارانہ ہیں، اور اس میں شہریت یا امیگریشن کے بارے میں کوئی سوالات نہیں ہیں۔